

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR,
CAMP COURT AT SWAT

Service Appeal No. 1722 /2022

Nisar Khan ... versus ... The D&SJ & others

INDEX

S #	Description of documents	Annexure	Pages
1.	Comments/reply to...	1-4
2.	Copy of letter No.97/ADSJ-Matta dated 21-04-2022	"A"	5
3.	Previous Guilty Record/Order No. 2278-83/E.B dated 27-10-2021	"B"	6-7
4.	Show Cause Notice bearing No. 691/E.B dated 26-04-2022	"C"	8-9
5.	Reply of the appellant to the above Show Cause Notice	"D"	10-11
6.	Final Show Cause Notice bearing No. 953/E.B dated 26-05-2022	"E"	12-14
7.	Reply of the appellant to the above Final Show Cause Notice	"F"	15-17
8.	Removal from Service Order dated 15-07-2022	"G"	18-23
9.	Replies of the appellant to various explanations	"I" "J" "K"	24-28
10.	Affidavit	29.

Respondents No. 1 to 3



(Rahatullah)

Acting District & Sessions Judge/
Zilla Qazi Swat

Respondents No. 1 to 3

C

No. 1180 /E.B

Dated: 12 / 05 /2023

To The Hon'ble Service Tribunal,
Khyber Pakhtunkhwa,
Camp Court at Swat.

SUBJECT: SERVICE APPEAL NO.1722/2022
Mr. Nisar Khan ... Vs... PHC & others.

Dear Sir,

Para-wise comments on behalf of respondents, in the subject Departmental Appeal may be read as under: -

The matter in Brief:

A complaint bearing letter No.97/ADSJ-Matta, dated 21-04-2022 was received from Additional District & Sessions Judge/IZQ, Matta, Swat, to the effect that the appellant Mr. Nisar Khan, ex-Driver is arrogant, argumentative, and is a nuisance; his conduct is unbearable (Annex "A"). In pursuance of the above complaint, keeping in view previous guilty-record of the appellant (Annex "B" consisting of 02 pages); formal inquiry against the official was dispensed with under Rule 7 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 2011 (hereinafter Rules) and the appellant was issued show-cause-notice vide this office letter bearing No. 691/E.B dated 26-04-2022 (Annex-"C"). The appellant submitted his lengthy reply, which was found not satisfactory; stuffed with baseless accusations against the Judicial Officers who possess untainted service record (Annex "D"). Resultantly final show-cause notice was issued to the appellant vide letter bearing No. 953/E.B dated 26/05/2022 (Annex "E" three sheet). The appellant submitted his reply (Annex "F"); it was also found not satisfactory and packed with false allegations against the Judicial Officers.

The appellant was heard in person who badly failed to invalidate the complaint of Additional District & Sessions Judge/IZQ, Matta, Swat. During personal hearing, it was observed that the appellant is under false impression that once a person enters into Government Job, he cannot be removed from service/Government Job. During personal hearing, the official started levelling baseless allegations against the

Dund



Officers instead of showing any repentance for his ill-disciplined acts. Resultantly, keeping in view past record of the appellant, persistent complaint against him, finding no prospect, hope or probability of his reformation, he was awarded major penalty under rule 04(1)(b)(iii) of the Rules and removed from service vide detailed order dated 15/07/2022. Copy of the detailed order is (Annexure "G" six sheets).


Preliminary: -

1. Correct, needs no answer.
2. Incorrect, hence denied.
3. Correct, needs no answer.
4. Correct, needs no answer.
5. Correct, needs no answer.
6. Correct, needs no answer except that now it has become infructuous under Rule 19 of the Rules.
7. Needs no answer.

Grounds:

- a. Incorrect, hence denied. Losing all hopes as to any possibility or probability of reformation in the performance and conduct of the appellant, having found not deserving for any further concessions or leniency and finding no other alternative, in the best interest of justice and department, to maintain the discipline, the order dated 15/07/2022 was passed in accordance with Rules and Law.
- b. Incorrect, hence denied. Due process means, a process according to law. In the instant case, the inquiry was dispensed with under Rule 7 of the Rules, therefore, the removal of the appellant from service cannot be termed in violation of "due process" guaranteed under Article 4 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
- c. Incorrect, hence denied. The allegation of collusion by the Judicial Officers, as alleged in the para under reply, per se,

Dr. Amir





reflect the mindset of the appellant. The allegation is beyond imagination that Head of District Judiciary, having parental role, would falsely join hand with the other Officers to remove the official from service. Replies of appellant in response to show cause notices put forth by him, if read together with para "C" of the appeal, the same supported the allegations of learned ADJ Matta i.e., the appellant is argumentative, does not take care of the directions given to him, arrogant in his conduct, *Ghumandi* "گھمنڈی" and a nuisance. The replies of the appellant to various explanations are annex "H" to ~~R~~.

- d. Incorrect, hence denied. Presiding Officer Child Protection Court had called explanation of the appellant and found his reply unsatisfactory, following which complaint was sent to the respondent No.01 against the appellant for his irregularity and habitual absence from official duties. Hence, the previous inquiry was initiated against the appellant in which the accused official was held guilty and in concurrence with the recommendation of the Inquiry Officer, he was awarded minor penalty in the shape of withholding two increments instead of major penalty; with a view that the appellant shall mend his ways, but all in vain. So far as pendency of Departmental Appeal against the above said order is concerned, the same under Rule 19 of the Rules has attained finality not being challenged before the Hon'ble Service Tribunal well within the prescribed time.


- e. Incorrect, hence denied. The appellant has been proven guilty of committing misconduct twice and awarded penalty on two different ground and different time. In the para under reply, it is incorrectly mentioned that he has been awarded penalty twice for the same misconduct.


Done




- f. Part first of para under reply is an admission of the appellant as to the correctness of inquiry proceedings and thereby his proven guilt, whereas, part second of the para is incorrect, hence denied. The appellant was awarded major penalty according to the law. Moreso, it is mere repetition of para "e" and thus needs no detail answer/elaboration.
- g. Incorrect, hence denied. Appellant was served twice with show cause notices, which contained statement of allegations and charges levelled against him, but he failed to rebut the same with solid proof, hence, he was removed accordingly. The inquiry against the accused official was rightly dispensed with under Rule 7 of the Rules and keeping in view the past conduct of the appellant, he was justly removed from government service. The repetition of the same facts time and again by the appellant read with repeated allegations against the Judicial Officers fully supported the allegations i.e., "he is argumentative, ill-disciplined, no regard for his seniors".
- h. As per Rule 19 of the Rules, the appeal is hopelessly time barred, therefore, merits dismissal, however, leave of the Court is the discretion of Hon'ble Tribunal.

It is, therefore, requested that the subject Service Appeal may kindly be dismissed.


District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat/
Respondent No.01


Additional Sessions Judge,
Matta (Swat)
Respondent No.02


Registrar
Peshawar High Court,
Peshawar
Respondent No.03

No. 97 ADSJ-Matta dated: 21-04-2022.

To:

The honorable District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat.

Subject: **CHANGE / TRANSFER OF OFFICIAL DRIVER**

Respected Sir,

With all humbleness it is submitted that undersigned has requested many times for the transfer of the official driver. I again requested that the driver may please be changed / transferred and any other driver may be posted for the official vehicle on the grounds that the current driver do not care for the directions given to him. He is unable to properly taken care of the vehicle and his conduct is not of an official. He is argumentative and does not take care of the directions given, arrogant in his conduct as driver. He can be best disclosed as "Ghomundi" (گھومندی). His conduct is nuisance and unbearable.

It is requested that he may be changed / transferred and any alternative may be provided for the peace of mind of undersigned, so that I can concentrate on my work which needs more attention than correction of driver.

I shall be obliged.

Yours obediently,

(Abdul Majid)

Additional District & Sessions Judge/
I.Z.Q, Matta, Swat.

ڈی ایچ ایچ / ایف اے / ضلع قاضی
مٹا سوات



DISTRICT



**DISTRICT & SESSIONS JUDGE/
ZILLA QAZI SWAT**

Page-6 ANNEX-"B" (105 sheets)

Office: 0946-713891
FAX: 0946-713893

Website: djswat.gov.pk
Email: djswat@gmail.com


ORDER

Consequent upon receiving a written complaint from the Additional District & Sessions/Child Protection Court, Swat, vide letter No.34/CPC Swat, dated 22/02/2021, against the accused official, namely, Nisar Khan Driver, about his willful absence from duty without submission of any leave application or permission of the competent authority, his explanation was called. Finding reply to explanation vide this office letter No.293/EB, dated 23/02/2021, unsatisfactory, so the official was charge sheeted and formal inquiry was ordered against him vide this office order bearing Endst: No. 394-95/EB, dated 04/03/2021.

The learned Inquiry Officer/Additional District & Sessions Judge/IZQ-II Swat, vide his inquiry report dated 05/06/2021, recommended deduction of 04 days salary due to absence from duty on 10th, 11th, 12th & 16th February 2021 and also recommended withholding of two annual increments for a period of two years.

WHEREAS, in pursuance of the recommendation of the inquiry officer, the accused/official was served with show-cause notice vide letter No. 1512/EB dated 12/07/2021, who submitted his written reply. He was also heard in person, but could not give any justifiable reason for his willful absence. Resultantly, he was served with final show-cause notice vide Endst: No.1745/EB, dated 21/08/2021 as to why one or more penalty/penalties recommended by the inquiry officer may not be imposed upon him under the Khyber Pakhtunkhwa (Efficiency & Discipline) Rules, 2011. In response to this final show-cause notice, the official once again submitted similar reply and was again heard in person, however, he could not produce any substantive evidence or justifiable reason for the above-mentioned willful absence.

NOW THEREFORE, in above scenario, the undersigned being the competent authority award minor penalty by withholding two annual increments for a period of two years with non-accumulative effect to the accused official under Rule 4(1)(a)(ii)(iii) of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 2011 coupled with forfeiture of his salary for 04 days i.e. 10th, 11th, 12th & 16th, February, 2021. In this respect, office shall make necessary entries in the service record of the accused official with immediate effect.


(SHOAIB KHAN)
District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat
Sessions Judge/Zilla Qazi,
Swat.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE/ZILA QAZI, SWAT.

Endst: No. 2278-83/E.B

Dated: 27 / 10 / 2021

Copy forwarded to:

1. The Additional District & Sessions Judge/Child Protection Court, Swat, with reference to her complaint referred to above, for information.
2. The Senior Civil Judge/Aala Illaqa Qazi (Admn:), Swat.
3. The District Comptroller of Accounts, Swat.
4. The Budget & Accounts Assistant of this office for information and necessary action.
5. Mr. Nisar Khan, Driver, presently posted in the Court of AD&SJ/IZQ, Matta, for information.
6. Personal file of the official concerned.

N. Qazi
**District & Sessions Judge/
Zila Qazi, Swat
Sessions Judge/Zilla Qazi,
Swat.**



**DISTRICT & SESSIONS JUDGE/
ZILLA QAZI SWAT**

ANNEX - 'C' (two sheets)

	Office: 0946-713891 FAX: 0946-713893
	Website: dsjswat.gov.pk Email: dsjswat@pswd.com

No. 691 /E.BDated: 26 / 9 /2022

To: Mr. Nisar Khan, Driver,
to the Court of Additional District & Sessions Judge/
Izafi Zilla Qazi-Matta.

SUBJECT: **SHOW CAUSE NOTICE**

Memo:

Whereas, the learned Additional District & Sessions Judge/Izafi Zilla Qazi-Matta, vide letter No. 97/AD&SJ-Matta, dated 21/04/2022, reported against you in the following words:

With all humbleness it is submitted that undersigned has requested many times for the transfer of the official driver. I again requested that the driver may please be changed /transferred and any other driver may be posted for the official vehicle on the grounds that the current driver do not care for the directions given to him. He is unable to properly taken care of the vehicle and his conduct is not of an official. He is argumentative and does not take care of the directions given, arrogant in his conduct as driver. He can be best disclosed as "Ghomundi" (گھومندی). His conduct is nuisance and unbearable."

To the above complaint, the following facts are also highly relevant: -

- a) Previously, from 22/10/2020 to 17/11/2020, you were posted as Driver with AD&SJ/IZQ-II Swat, namely, Mr. Zia ul Haq, learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, who requested for your transfer from his court to any other court due to your conduct and behavior. In order to avoid damage to your future career nothing was brought on record in black and white.
- b) In pursuance of the request of learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, vide this office order bearing Endst: No.2570-76/EB, dated 17/11/2020, you were transferred to the Court of AD&SJ/IZQ-CPC Swat. Instead of mending your way and reformation of your conduct, you continued to tread on the same routine forcing the learned AD&S/IZQ-CPC to complain against you and accordingly the same was forwarded to this office vide her letter No.34/CPC, dated 22/02/2021. On the referred complaint you were proceeded against and later, on proof of guilt, vide this office order bearing Endst: No.2278-83/EB dated 27/10/2021 awarded minor penalty by withholding two annual increments for a period of two years with non-accumulative effect coupled with forfeiture of your salary for 04 days i.e. 10th, 11th, 12th & 15th, February, 2021,

after taking lenient view for the sake of you and your family. Thus, again on the request of learned AD&SJ/CPC, Swat, you were transferred out and posted in the Court of AD&SJ/IZQ-Matta.

- c) That during your posting with Mr. Asim Riaz AD&SJ/IZQ, Matta, twice or thrice the learned AD&SJ/IZQ Matta, complained about your conduct, requested for your transfer and when asked for complaint in writing, he avoided to bring anything in black and white to save you and your family from damage.

The above latest report from learned AD&SJ/JZQ-Matta clearly establish that neither you have mended your way nor reformed your conduct. Your above reflected conduct through reports of 04 learned AD&SJs is more than enough to dispense with inquiry within the ambit of the section 7 of the ibid rules.

NOW THEREFORE, you are served with this show cause notice under Rule 7 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, as to why not, in the light of above referred complaint and your previous conduct, Major Penalty of removal from service under Rule 4 of the ibid rules, may not be imposed upon you. Intimate whether you desire to be heard in person.

Your reply must reach to this office within 07 days, otherwise it will be presumed that you have no defence.


(SHOAIB KHAN)
District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat

بھنور جناب ڈسٹرکٹ جج ضلع قاضی صاحب، سوات

عنوان: وضاحتی جواب بحوالہ شوکاژ نوٹس نمبر 691/EB مورخہ 26.04.2022-

جناب عالی!

میرا وضاحتی جواب حسب ذیل ہے۔

(1) میرے خلاف ارسال کردہ شکایتی رپورٹ بحوالہ خط نمبر 97/ADSJ-Matta مورخہ 21.04.2022 حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب میرا محترم عبدالماجد، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، کے ساتھ چکدرہ سے سرکاری موٹر کار میں ٹیکورہ لاتے ہوئے، اُس پہلی ملاقات میں اُس نے مجھ سے محترمہ سعدیہ عندلیب، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پریذ ایڈنگ آفسر چائلڈ پروٹکشن کورٹ، سوات، کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ جج صاحبہ اُس کی بہن جیسی ہے اور میرے خلاف اُس نے اُسے شکایت کی ہے۔ جس کے تسلسل میں محترمہ جج صاحبہ نے چارج سنبھالنے کے تیسرے روز مجھ سے explanation طلب کرتے ہوئے، سرکاری موٹر کار کی proper maintenance نہ کرنے اور دیر سے پہنچنے کا بہانہ بنایا جس پر میں نے اپنا تحریری وضاحت بیان پیش کر کے، بلا مزید کارروائی داخل دفتر ہوئی۔ نقل جواب طلبی لف ہے۔

میرے خلاف یہ الزام کہ میں جج صاحب کے ہدایات پر عمل نہیں کرتا، سرکاری موٹر کار کا خیال نہیں رکھتا اور اُس کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑتا ہوں، میں کوئی سچائی نہ ہے بلکہ یہ جتن کرہ بالا جج صاحبان کے آپس میں نزدیک تعلقات کی بناء پر، محترمہ سعدیہ عندلیب جج صاحبہ کے کہنے پر مجھے تنگ و پریشان کرنے اور میرے ملازمت کو نقصان پہنچانے کیلئے الزام لگایا گیا ہے ورنہ تین یوم میں کسی ملازم کی کارکردگی نہیں چانچا جاسکتا۔ مزید یہ کہ میں گھمنڈی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک غریب شخص ہوں اور اپنی ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور اچھے طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن غلامی کیلئے تیار نہیں ہوں۔ میرے خلاف کسی بھی جج صاحب نے میری اصل ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور کے بابت کوئی شکایت نہیں کی ہے البتہ محترمہ سعدیہ عندلیب جج صاحبہ مجھ سے ڈرائیونگ کے علاوہ دیگر کام کرنے پر استفسار کر رہی تھی جو کہ میں نے صاف انکار کیا تھا کہ میں اپنی اصل ڈیوٹی یعنی ڈرائیونگ کے علاوہ گھر کے دیگر کام کاج نہیں کر سکتا۔ جس پر ہمارے مابین تنازعہ پیدا ہوا تھا۔

علاوہ ازیں محترم ضیاء الحق، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب دوم سوات، کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج تک اُن کے سرکاری موٹر کار کی ڈرائیونگ اُس کا پولیس گٹر کرتا چلا آ رہا ہے نیز اُس

Seen, place on the relevant
inquiry file.

District & Sessions Judge
Zilla Qazi Swat

24-05-2022

(Two sheets)
two copies

24-05-22

کا گھر بھی عدالتوں کے نزدیک ہے جس وجہ سے کبھی کبھار وہ خود گاڑی میں آتا جاتا ہے۔ چونکہ محترم ضیاء الحق جج صاحب کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے مجھے بحیثیت خانسا مالک میں کام کرانے کا کہا تھا جس پر میں نے اسے انکار کر کے، وہ مجھ سے نکل ہوا تھا۔ البتہ میری اصل ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور نہ کرنے کی نسبت کسی بھی جج صاحب نے میرے خلاف شکایت نہیں کی ہے کہ میرا ڈرائیونگ میں مہارت نہ ہے، گاڑی کو صاف نہیں رکھتا یا گاڑی میں بار بار فنی خرابی میری maintenance نہ کرنے کی وجہ سے آکر رکاوٹ بن جاتی ہے۔

District Head Office
SWAT

جہاں تک میرے خلاف انکوائری کرانے کا تعلق ہے تو اگرچہ آنحضرت نے مجھے minor penalty دی ہے لیکن مذکورہ حکم کے خلاف میرا حکمانہ اپیل معزز عدالت عالیہ پشاور میں تصفیہ طلب ہے۔ نیز میرے خلاف محض فارمل انکوائری کر کے، مزاد دی گئی ہے حالانکہ اس انکوائری کی رو سے میرے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں لایا گیا ہے جس کی رو سے مجھے قصور وار ٹھہرایا جاسکے۔

اس طرح محترم جناب عاصم ریاض خان، سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب مدد نے میرے خلاف کوئی شکایت نہیں کی ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نہایت ایمانداری اور خلوص کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے۔ نیز اس سے قبل میں نے محترم جناب بخت عالم خان، سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب مدد، کے ساتھ کافی لمبے عرصہ تک ڈیوٹی سرانجام دی تھی اور اس نے متذکرہ بالا انکوائری کے دوران میری ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ نبھانے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا۔

متذکرہ بالا شوکانز نوٹس شریعت، قانون، آئین پاکستان اور انصاف کے زیریں اصولوں کے برعکس ہے کیونکہ بلا تحقیق کسی کے خلاف کارروائی کرنا اور خاص کر کسی سے اس کا رزق چھیننا ہرگز درست نہ ہے۔ میں برحلف کہتا ہوں کہ میں رزق حلال کمانے کی خاطر اپنی ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور مہارت، ایمانداری اور تابعداری سے کرتا چلا آ رہا ہوں اور میں نے اپنی مذکورہ ڈیوٹی میں نہ کوئی کوتاہی کی ہے اور نہ کرونگا البتہ اپنی اصل ڈیوٹی کے علاوہ دیگر گھریلو کام کرنے کیلئے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کے سامنے پیش ہو کر زبانی طور پر بھی اپنا وضاحت کرنے کا خواہاں ہوں اگر اجازت مل جائے۔

استدعا کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا وضاحت کے پیش نظر میرے خلاف کی گئی شکایت کو خارج کیا جائے اور شوکانز نوٹس بلا مزید کارروائی داخل دفتر فرمائی جائے۔

عزیز
30/022

فارخان ڈرائیور



**DISTRICT & SESSIONS JUDGE/
ZILLA QAZI SWAT**

ANNEX- "E" {three sheets}

Office: 0946-713891 FAX: 0946-713893
WEBSITE: djswat.gov.pk EMAIL: djswat@gmail.com

(14)

No. 953 /E.B

Page - 12

Dated: 26/05/2022

To: Mr. Nisar Khan, Driver,
Court of District & Sessions Judge, Swat.

SUBJECT: **FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

Memo:

I, Shoaib Khan, District & Sessions Judge/Zila Qazi, Swat/the Competent Authority, under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servant (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, do hereby serve you with this final show-cause notice.

Whereas, the learned Additional District & Sessions Judge/Izafi Zilla Qazi-Matta, vide letter No. 97/AD&SJ-Matta, dated 21/04/2022, reported against you in the following words:

With all humbleness it is submitted that undersigned has requested many times for the transfer of the official driver. I again requested that the driver may please be changed /transferred and any other driver may be posted for the official vehicle on the grounds that the current driver do not care for the directions given to him. He is unable to properly taken care of the vehicle and his conduct is not of an official. He is argumentative and does not take care of the directions given, arrogant in his conduct as driver. He can be best disclosed as "Ghomundi" (غھومندی). His conduct is nuisance and unbearable."

Viz-a-viz the above complaint, the following facts are/were found highly relevant and reflected in the first show cause notice:

- a) Previously, from 22/10/2020 to 17/11/2020, you were posted as Driver with AD&SJ/IZQ-II Swat, namely, Mr. Zia ul Haq, learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, who requested for your transfer from his court to any other court due to your conduct and behavior. In order to avoid damage to your future career nothing was brought on record in black and white.
- b) In pursuance of the request of learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, vide this office order bearing Endst: No.2570-76/BB, dated 17/11/2020, you were transferred to the Court of AD&SJ/IZQ-CPC Swat. Instead of mending your way and reformation of your conduct, you continued to tread on the same routine forcing the learned AD&S/IZQ-CPC to complain against you and accordingly the same was forwarded to this office vide her letter No.34/CPC, dated 22/02/2021. On the referred complaint you

Shoaib Khan
District & Sessions Judge
Zilla Qazi Swat

were proceeded against and later, on proof of guilt, vide this office order bearing Endst: No.2278-83/EB dated 27/10/2021 awarded minor penalty by withholding two annual increments for a period of two years with non-accumulative effect coupled with forfeiture of your salary for 04 days i.e. 10th, 11th, 12th & 15th, February, 2021, after taking lenient view for the sake of you and your family. Thus, again on the request of learned AD&SJ/CPC, Swat, you were transferred out and posted in the Court of AD&SJ/IZQ-Matta.

- c) That during your posting with Mr. Asim Riaz AD&SJ/IZQ, Matta, twice or thrice the learned AD&SJ/IZQ Matta, complained about your conduct, requested for your transfer and when asked for complaint in writing, he avoided to bring anything in black and white to save you and your family from damage.

WHEREAS, prior to this final show-cause notice, a show-cause notice vide this office letter No.691/E.B dated 26/04/2022 was served upon you. In response whereof your reply received to this office on 09/05/2022 which runs as under: -

میرے خلاف یہ الزام کہ میں جج صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، سرکاری موٹر کار کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑتا ہوں، میں کوئی سچائی نہ ہے بلکہ یہ منکرہ بالا مجرم صاحبان کے آپس میں نزوک تعلقات کی بنا پر محترمہ سعیدہ عند لیب جج صاحبہ کے کہنے پر مجھے تنگ و پریشان کرنے اور میرے ملازمت کو نقصان پہنچانے کے لئے الزام لگایا ہے در نہ تین روز میں کسی ملازم کی کارکردگی نہیں جانچا جاسکتا۔ مزید یہ کہ میں گھنڈی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک فریب شخص ہوں۔ اپنی ذمہ داری بحیثیت ڈرائیور اچھے طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن غلامی کے لئے تیار نہیں ہوں۔ میرے خلاف کسی بھی جج صاحب نے میری اصل ذمہ داری بحیثیت ڈرائیور کے بابت کوئی شکایت نہیں کی ہے البتہ محترمہ سعیدہ عند لیب جج صاحبہ مجھ سے ڈرائیونگ کے علاوہ دیگر کام کرانے پر استفسار کر رہی تھی جو کہ میں نے صاف انکار کیا تھا کہ میں اپنی اصل ذمہ داری یعنی ڈرائیونگ کے علاوہ گھر کے دیگر کام کاج نہیں کر سکتا۔ جس پر ہمارے مابین تنازعہ پیدا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں محترمہ ضیاء الحق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ دوم سوات، کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج تک ان کے سرکاری موٹر کار کی ڈرائیونگ اس کا پولیس گنر کرتا چلا آ رہا ہے نیز اس کا گھر بھی حد التوں کے نزدیک ہے، جس وجہ سے کبھی کبھار وہ خود گاڑی میں آتا جاتا ہے۔ چونکہ محترمہ ضیاء الحق جج صاحبہ کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے مجھے بحیثیت خاندان میں بلکہ میں کام کرنے کا کہا تھا جس پر میں نے اسے انکار کر کے وہ مجھ سے خفا ہوا تھا۔



**DISTRICT & SESSIONS JUDGE/
ZILLA QAZI SWAT**

Office: 0946-713991
FAX: 0946-713993

WEBSITE: djswat.gov.pk
EMAIL: djswat@gmail.com


Page 14

This reply is found unsatisfactory and without substance for the following reasons: -

- a. Each and every sentence of your above reply reflect your conduct of unbecoming a good civil servant who blames without proof of the allegation, further establishes that you are a sick minded accused official, habitual of breeding up and developing imaginary and false theories in mind who act accordingly by believing in blame game.
- b. As stated and reflected in the first show cause notice dated 26-04-2022, prior to the complaint of learned ADJ- Matta, all the judicial officer with whom you remained posted since 2020 consistently complained about your indifferent attitude and conduct not becoming of a good civil servant, who avail frequent leaves without prior permission/sanction. Besides the above, all the referred judicial officer further complained/communicated time and again that you don't take care of the official vehicle.
- c. It is not appealing to the reasons and sense that the judicial officers mentioned in the first show cause notice, had some ill-will against you. Thus, it is absolutely not believable that all were gathered on falsehood against you.

NOW THEREFORE, you are served with this final show cause notice under Rule 7 of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, as to why not, in the light of above referred complaint and your previous conduct read with your reply to show-cause notice, Major Penalty of removal from service under Rule 4 of the ibid rules, may be imposed upon you. Intimate whether you desire to be heard in person.

Your reply must reach to this office within 07 days, otherwise it will be presumed that you have no defence.


(SHOAB KHAN)
District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat
District & Sessions Judge
Swat at Saidu Sharif

محضور جناب ڈسٹرکٹ جج، ضلع قاضی صاحب، سوات

عنوان: وضاحتی جواب بحوالہ فائل شوکار نوٹس نمبر 953 مورخہ 26/05/2022

جناب عالی

میرا وضاحتی جواب حسب ذیل ہے۔

میرے خلاف ارسال کردہ شکایتی رپورٹ بحوالہ خط نمبر ADSI-Matta 97/مورخہ 21/04/2022 حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب میرا محترم عبد الماجد، اینڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، کے ساتھ چکدرہ سے سرکاری موٹر کار میں منگورہ لائے ہوئے اس پہلی ملاقات میں اس نے مجھ سے محترمہ سعیدہ عندلیب، اینڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پریذائٹنگ آفیسر جائلڈ پروٹیکشن کورٹ سوات، کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ جج صاحبہ اس کی بہن جیسی ہے اور میرے خلاف اس نے اسے شکایت کی ہے۔ جس کے تسلسل میں محترم جج صاحب منہ نے چارج سنبھالنے کے تیسرے روز مجھ سے explanation طلب کرتے ہوئے، سرکاری موٹر کار کی proper maintenance نہ کرنے اور در سے پہنچنے کا بہانہ بنایا جس پر میں نے اپنا تحریری وضاحت بیان پیش کر کے، بلا مزید کارروائی داخل دفتر ہوئی نقل جواب طلبی لف ہے۔

District Judge 7711a Qazai
منشی - 9

میرے خلاف یہ الزام کہ میں جج صاحب کے ہدایات پر عمل نہیں کرتا، سرکاری موٹر کار کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑتا ہوں، میں کوئی سچائی نہ ہے بلکہ یہ متذکرہ بالا جج صاحبان کے آپس میں نزدیک تعلقات کی بنا پر محترمہ سعیدہ عندلیب جج صاحبہ کے کہنے پر مجھے تنگ و پریشان کرنے اور میرے ملازمت کو نقصان پہنچانے کیلئے الزام لگایا گیا ہے ورنہ تین یوم میں کسی ملازم کی کارکردگی نہیں چانچا جاسکتا۔ مزید یہ کہ میں گھمنڈی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک غریب شخص ہوں اور اپنی ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور اچھے طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن غلامی کیلئے تیار نہیں ہوں۔

حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب عبد الماجد صاحب سوات چارج سنبھالنے کے لئے آ رہے تھے تو مجھ سے فون پر رابطہ کر کے ہفتہ کے دن کہا کہ کل اتوار کو میں سوات آ رہا ہوں، مجھے لینے چکدرہ آنا ہوگا۔ میں اتوار کو صبح گھر سے جج صاحب کو لینے چکدرہ پہنچا۔ بس سٹاف پر تقریباً 45 منٹ انتظار کر کے جج صاحب کا فون آیا کہ کدھر ہو، میں نے کہا کہ میں چکدرہ بس سٹاف پر کھڑا ہوں تو جواب ملا آپ ٹول پلازے کیوں نہیں آتے میں آپ کو لاپیدھا کر دوں گا میں فوجی کاپیٹا ہوں میں نے کہا جج صاحب اپ پانچ منٹ ڈرائیو کر کے میں روڈ کے ادھر اب کو کھڑا ہوا نظر آؤں گا، جواب میں جج صاحب نے کہا بحث مت کروں میں میں ابا ہوں دیکھ لوں گا اپکو۔ پھر جج صاحب جب پہنچا تو سلام کے بعد اس نے مجھ سے محترم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے بارے میں پوچھا کہ کیسا بندہ ہے اور میڈم سعیدہ عندلیب کے بارے میں، تو میں نے جواب میں کہا کہ دونوں بہت اچھے ہیں۔

Three sheets
received
06-06-2022

- کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...

- کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...

- کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...

- کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...

- کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...
 - کچھ فیصد میں سے...

District Tehsil Thana...
 9-6-2011

میں نے اپنے جواب میں کسی قسم کا الزام نہیں لگایا بلکہ میں نے بالکل سچ کہا ہے اور اسلسلے میں اگر آپ مجھ سے قرآن پاک پر حلف لینا چاہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔

متذکرہ بالا شوکاز نوٹس شریعت، قانون، آئین پاکستان اور انصاف کے زیریں اصولوں کے برعکس ہے کیونکہ بلا تحقیق کسی کے خلاف کارروائی کرنا اور خاص کر کسی سے اس کا رزق چھیننا ہرگز درست نہ ہے۔

میں بر حلف کہتا ہوں کہ میں رزق حلال کمانے کی خاطر اپنی ڈیوٹی بحیثیت ڈرائیور مہارت، ایمانداری اور تابعداری سے کرتا چلا آ رہا ہوں اور میں نے اپنی مذکورہ ڈیوٹی میں نہ کوئی کوتاہی کی ہے اور نہ کرونگا البتہ اپنی اصل ڈیوٹی کے علاوہ دیگر گھریلو کام کرنے کیلئے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کے سامنے پیش ہو کر زبانی طور پر بھی اپنا وضاحت کرنے کا خواہاں ہوں اگر اجازت مل جائے۔

استدعا کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا وضاحت کے پیش نظر میرے خلاف کی گئی شکایت کو خارج کیا جائے اور فائنل شوکاز نوٹس بلا مزید کارروائی داخل دفتر فرمائی جائے۔

9-6-2022
District Judge/Zilla Qazi
Swat

عریفہ
نثار خان ڈرائیور
06-06-2022

BEFORE SHOAB KHAN
DISTRICT & SESSIONS JUDGE SWAT /COMPETENT AUTHORITY

Order in inquiry proceedings against Nisar Khan (driver)

Order
15-07-2022

Present: Mr. Nisar Khan, Driver (herein after shall be referred to as the accused) in person.

Reply to final show cause notice perused and the accused official already heard in person.

Brief facts/History

Accused official was appointed as driver vide this office order bearing No. 3491-3500/E.B dated 05/11/2018 remain posted with ADJ-Matta up to 22/10/2020 and thereafter transferred and posted with different judicial officers.

The learned AD&SJ-Matta through his letter cum complaint No. 97/ADSJ-Matta, dated 21/04/2022 reported against the accused as under: -

With all humbleness it is submitted that undersigned has requested many times for the transfer of the official driver. I again requested that the driver may please be changed/transferred and any other driver may be posted for the official vehicle on the grounds that the current driver do not care for the directions given to him. He is unable to properly taken care of the vehicle and his conduct is not of an official. He is argumentative and does not take care of the directions given, arrogant in his conduct as driver. He can be best disclosed as "Ghomundi" (غھومندگی). His conduct is nuisance and unbearable.

In the light of above complaint/letter, vide this office letter No. 691/E.B, dated 26/04/2022, while dispensing with the inquiry u/r. 7 of the Khyber Pakhtunkhwa Government servants (Efficiency and Discipline) Rules, 2011(herein after shall be referred to as Rules) Show cause notice was issued to him with following additional grounds in the light of past conduct of the official: -


MSM
District Judge/Zilla Qazi.

SWAT.

- a) Previously, from 22/10/2020 to 17/11/2020, you were posted as Driver with AD&SJ/IZQ-II Swat, namely, Mr. Zia ul Haq, learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, who requested for your transfer from his court to any other court due to your conduct and behavior. In order to avoid damage to your future career nothing was brought on record in black and white.
- b) In pursuance of the request of learned AD&SJ/IZQ-II, Swat, vide this office order bearing Endst: No.2570-76/EB, dated 17/11/2020, you were transferred to the Court of AD&SJ/IZQ-CPC Swat. Instead of mending your way and reformation of your conduct, you continued to tread on the same routine forcing the learned AD&S/IZQ-CPC to complain against you and accordingly the same was forwarded to this office vide her letter No.34/CPC, dated 22/02/2021. On the referred complaint you were proceeded against and later, on proof of guilt, vide this office order bearing Endst: No.2278-83/EB, dated 27/10/2021 awarded minor penalty by withholding two annual increments for a period of two years with non-accumulative effect coupled with forfeiture of your salary for 04 days i.e. 10th, 11th, 12th & 15th, February, 2021, after taking lenient view for the sake of you and your family. Thus, again on the request of learned AD&SJ/CPC, Swat, you were transferred out and posted in the Court of AD&SJ/IZQ-Matta.
- c) That during your posting with Mr. Asim Riaz AD&SJ/IZQ, Matta, twice or thrice the learned AD&SJ/IZQ Matta, complained about your conduct, requested for your transfer and when asked for complaint in writing, he avoided to bring anything in black and white to save you and your family from damage.

In response to the above show cause notice, the reply dated 09/05/2022 of the accused official led to yet final show cause notice vide office order No.953/E.B, dated 26/05/2022 as follows: -

- a. *Each and every sentence of your above reply reflect your conduct of unbecoming a good civil servant who blames without proof of the allegation, further establishes that you are a sick minded accused official, habitual of breeding up and developing imaginary and false theories in mind who act accordingly by believing in blame game.*
- b. *As stated and reflected in the first show cause notice dated 26-04-2022, prior to the complaint of learned AD]- Matta, all the judicial*


District Judge Zilla Qazi.

officer with whom you remained posted since 2020 consistently complained about your indifferent attitude and conduct not becoming of a good civil servant, who avail frequent leaves without prior permission/sanction. Besides the above, all the referred judicial officer further complained/communicated time and again that you don't take care of the official vehicle.

- c. It is not appealing to the reasons and sense that the judicial officers mentioned in the first show cause notice had some ill-will against you. Thus, it is absolutely not believable that all were gathered on falsehood against you.

After seeking extension in time, the accused has submitted his reply accordingly on 09/06/2022. The accused had also been heard in person on 20/06/2022 and on 30.06.2022 as well.

Grounds for decision: -

In response to the above final show cause notice, the reply of the accused official being relevant is reproduced as under:

میرے خلاف یہ الزام کہ میں جج صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، سرکاری موٹر کار کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ بحث مباحثے میں ڈپڑتا ہوں، میں کوئی سچائی نہ ہے بلکہ یہ مندرکہ بالا ججز صاحبان کے آپس میں نزدیک تعلقات کی بنا پر محترمہ سعدیہ عندلیب جج صاحبہ کے کہنے پر مجھے تنگ و پریشان کرنے اور میرے ملازمت کو نقصان پہنچانے کے لئے الزام لگایا ہے ورنہ تین یوم میں کسی ملازم کی کارکردگی نہیں جانچا جاسکتا۔ مزید یہ کہ میں گھمنڈی نہیں ہوسکتا کیونکہ میں ایک غریب شخص ہوں۔ اپنی ڈیوٹی بحثیت ڈرائیور اچھے طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن غلامی کے لئے تیار نہیں ہوں۔ میرے خلاف کسی بھی جج صاحب نے میری اصل ڈیوٹی بحثیت ڈرائیور کے بابت کوئی شکایت نہیں کی ہے البتہ محترمہ سعدیہ عندلیب جج صاحبہ مجھ سے ڈرائیونگ کے علاوہ دیگر کام کرائے پر استفسار کر رہی تھی جو کہ میں نے صاف انکار کیا تھا کہ میں اپنی اصل ڈیوٹی یعنی ڈرائیونگ کے علاوہ گھر کے دیگر کام کاج نہیں کرسکتا۔ جس پر ہمارے مابین تنازعہ پیدا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں محترم ضیاء الحق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب دوم سوات، کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج تک ان کے سرکاری موٹر کار کی ڈرائیونگ اس کا پولیس گنر کرتا چلا آ رہا ہے نیز اس کا گھر بھی عندالتوں کے نزدیک ہے، جس وجہ سے کبھی کبھار وہ خود گاڑی میں آتا جاتا ہے۔ چونکہ محترم ضیاء الحق جج صاحب کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے مجھے بحثیت خانسامان بنگلہ میں کام کرنے کا کہا تھا جس پر میں نے ایسے انکار کر کے وہ مجھ سے خفا ہوا تھا۔


Conduct of the accused is evident from his reply. Within three days of the assumption of charge by the Learned AD&SI-Matta, the accused was

issued counseling letter in the shape of explanation bearing No.81, dated 12/04/2022, reflecting several instances of ill-disciplined behavior of the accused especially with regard to his being not punctual and not performing his duties properly.

Besides above, in pursuance of previous Inquiry he was held guilty, punished in the shape of forfeiture of two increments against which his appeal is pending before the appellate forum. As a civil servant, he was required and expected to mend his way and discipline his conduct with regard to his duty and the officer with whom he performs duty however he seems to be an arrogant and disobedient person bent upon holding to his arrogance by terming the command of his officer as slavery and thinking discipline, hallmark of civil service, as slavery which is also evident from his reply.

Four Judicial officers with whom he worked in the recent past had declared him and his duty unsatisfactory through consistent oral complaints. It is not appealing to a prudent mind that 4 Judicial officers, known for their honesty, integrity would have joined hand against the accused only to cause him loss and that too just for nothing. Accused has failed to bring any malafide on behalf of these officers enjoying reputation above board and are well aware that their opinion is a trust for which they will also be held liable in case the same is polluted with any personal liking or disliking. The Prophet Muhammad (PBUH) said that the Umma will never unite on misguidance (ضلالت) and I am of the view that the opinion, in various forms, of the judicial officers against the accused and his own reply consistently hints towards the accused being negligent of his duties, of his arrogance (Gumandi in the words of learned ADJ-Matta) and that his conduct is unbecoming of a civil servants who despite several opportunities is not ready to mend his ways.

Being well aware of the prophet's (peace be upon him) saying that a servant be forgiven 70 times a day (Hadeedh No. 5164 -Abu Dawood), the accused was granted with numerous opportunities, however, in vain as he


District Judge Zilla Qazi.

did not mend his ways. Sincerity towards assignment and purity in conduct are the signs of success for a civil servant. Likewise, mismanagement, negligence toward duties and undisciplined attitude leads to the collapse of system, which is neither desirable nor permissible.

According to Christian theology the kingdom of heaven (خدائی بادشاہت) shall be made within humans. Islam goes a step forward and urge on not only transforming an individual into this line but also establishing this heavenly kingdom on earth for the benefit of greater cause of humanity, however, the same cannot be achieved or maintained without controlling and making amenable to discipline the conduct of individuals, especially the civil servants.

Discipline is the essence of public service as well as good governance and administration and there are numerous, instead countless instances, that the official were removed from service for the greater cause of discipline. The instance of removal of Hazrat Khalid Bin Waleed (Gods blessings be upon him) from commanding the army and that too at the peak of his career, and Hazrat Saad (Gods blessings be upon him) from the governorship of Kofa by Hazrat Umar Farooq (God Blessings be upon him) are just two of the examples.

Now, to sum up above discussion, in view of consistent and continuous complaints of the four judicial officer, all of the rank of ADJs, bestowed upon the trust to decide the death and life of people, absolutely not appealing to the reason and sense that they would have been gathered on falsehood against a driver and that too for the sake of relation, as per the reply of accused official, their opinion/complaint a sort of well-known evidence, in my opinion, is sufficient to hold that there is no probability of mending his way by the accused official and resultantly becoming of a good civil servant and resultantly he deserve major penalty of removal from service.

Thus, for the reasons and conclusion herein above, in exercise of the power conferred under rule 04 (i)(b)(iii) of the Rules, accused official

stands removed from his service with immediate effect. The office is directed for necessary measures forthwith including collection of official ID Card from the accused. Copy of the order is given to the accused official. File of this court be consigned to the record room after necessary completion and compilation.

Announced
15-07-2022

Shoaib Khan
(SHOAIB KHAN)
D&SJ/ Competent authority

District Judge/Zilla Qazi.
SWAT.

لجہ اللہ خدمتِ مہمہ

دعا ہے کہ یہ سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہو سکے اور آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

آپ کے سب کاموں کو جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا ہے۔

Forwarded to featured
DST Swat for meclsa
D. Swat
Swat

19.03.2008

BEFORE THE WORTHY ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE/ IZAFI ZILA QAZI-III,
SWAT/INQUIRY OFFICER.SUBJECT: REPLY TO THE CHARGE-SHEET DATED 27/03/2021

Respected Sir,

Th reply to charge sheet is as under

1. The allegation against me regarding absence from duty without obtaining permission of the Presiding Officer of the Court is incorrect. So far as the inquiry proceedings pending against me in pursuant of order bearing Endst: No.394-95 dated 04/03/2021 is concerned, the same has been initiated on the complaint of learned Presiding Officer of Child Protection Court, Swat, as I had refused to wash dishes and clothes etc for her, as I being Driver, not bound to perform household chores, thus the same is based on malafide.
2. On 15/03/2021, I sought casual leave telephonically through an official of the Court well in time and not at 10:30 A.M, hence the same was allowed by the Presiding Officer of the Court. The said casual leave was availed by me in special circumstances as the leakage in gutter pipeline inside my house was spoiling the premises by spreading bad smell in the neighborhood which repair was unavoidable. The said work was not completed on 15/03/2021 till night 11:00 PM, therefore, on the following day i.e. 16/03/2021, I once again requested for casual leave well in time so as to complete the said work, however, on the said day at late time I was informed that the casual leave was refused by the Presiding Officer of the Court.
3. This para is correct to the extent that the learned Presiding Officer of Child Protection Court, termed my reply as unsatisfactory and communicated to the Hon'ble District & Sessions Judge/Zila Qazi, Swat, for further necessary action but the report/letter is biased.
4. The allegations are incorrect, denied. I can never even think to be undisciplined and always following good discipline and respecting protocols of my high-ups as evident from my previous service record with no single complaint against me.
5. That I did not commit any negligence on my part rather, I performed my duties efficiently with due care and honesty.
6. That I request your goodself to be heard in person and explain my position more clearly.

ایجنٹ کیلئے جواب
مقام لاہور
5/4/21

تھانہ 293/28 صدرہ 201.02.23

جواب طلبی رپورٹ

1

کہا جا رہا ہے کہ میں عدالت سے 19/02/2021 میں 3/4

ماہ سے بطور ڈائریکٹر ڈپٹی سیکرٹری انچارج رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سے اپنی ڈپٹی خلوں نیت اور ایمانداری سے سہرا انچارج دیا ہے اور کبھی قسم کا شکایت کا قریب نہیں آیا۔

آؤ Aw + صاحب ضابطہ طور پر روزمرہ کی بنیاد پر جمع ہو رہے

بفعل متعلقہ مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں۔

AD 11/02/2021 مورخہ 10-2-2021 کو جب میں منقلہ میں تھا تو مدعی صاحبہ نے 27-03-2021 کو کہا کہ میں نے تمہاری جگہ پر لکھی ہے اور تمہاری جگہ پر لکھی ہے۔ اس کا طرہ 11/02/2021

اور 12/02/2021 کو بھی جمع ہو رہے منقلہ متعلقہ مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج دیا ہے۔

کہا جا رہا ہے!

مورخہ 13/02/2021 کو جب میں ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں تھا تو مدعی صاحبہ نے

کہا کہ آج ہم ڈپٹی سیکرٹری انچارج اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج کے درمیان میں ملازمہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔

میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔

میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔

میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے نوٹس میں مدعی صاحبہ کے ساتھ ملازمہ رہا ہوں اور ڈپٹی سیکرٹری انچارج میں ملازمہ رہا ہوں۔

میراہ فیض صاحب گئے اور وہاں ہم دوپہر تک رہے اور پھر وہاں سے
سوات کیلئے روانہ ہو گئے۔

جناب عالی!

واپسی پر مردانہ راستے میں طبیعت ٹھیک رہی اور
اور زبردستی کی وجہ سے کافی تکلیف ہوئی اور کافی تکلیف کا ڈر ہونے لگا
کے ہوتے سوات پہنچا۔ طبیعت صاحب نے کیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اسی
کے 3 دن تک فہم آراغ کر رہا اور آئنا علاج / طبیعت ٹھیک ہو گئی۔
بلکہ ہونے پر مسہر طبیعت کافی ٹھیک ہو گئی تھی تو میں بہت علاج

علاج پہنچا گیا جہاں پر آئینہ علاج کیا اور کیا کہ تمہیں آراغ کی فکر نہ ہے۔

علاج و علاج کی نسبت ڈاکٹر (Prohibition) جواب دہاں کے لئے ہے۔

تاریخ 20/05/2001 کو میں صاحب ضابطہ طرز میں منسلک مسودہ لکھا اور
تو طبیعت صاحب نے کیا کہ اب تمہاری طبیعت کسی سے تو نہیں کیا کہ اب طبیعت

طبیعت ہے تو طبیعت نے کیا کہ تمہیں آراغ کی فکر نہ ہے اور اب کھڑا
ہو گیا اور 23/05/2001 کو صاحب نے طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور

صاحب ضابطہ طرز میں ڈاکٹر کیلئے منسلک متعلقہ نسخا اور وہاں پر طبیعت صاحب

کو سیر ڈاکٹر کی آفیس لے آیا اور آفیس میں پہنچنے پر ڈاکٹر نے طبیعت

طبیعت صاحب نے کیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اور اب

تو وہاں پر حاضر ہو دو اور منت سیر کی سٹیٹو صاحب کو رپورٹ کرو۔ اور اب

وہاں پر حاضر رہنے کیلئے پہنچا۔ تب بھی وہاں پر منسلک صاحب نے طبیعت صاحب

سے ملایا اور باہر آیا کہ کیا کہ جاؤ اپنی Explanation کا بلا برو۔

جنا۔ عالی!۔ کیا کہ تمہیں کد میں نہ پہنچے اور اب ڈاکٹر نے طبیعت صاحب سے ادا کی ہے اگر

کسی قسم کی غلطی سے زبردستی ہو تو آئینہ علاج و علاج پہنچا۔

الجارحی
شارحان
طراز

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR,
CAMP COURT AT SWAT

Service Appeal No. 1722 /2022


Nisar Khan..... Appellant

VERSUS

The District & Sessions Judge, Swat/ZQ, Swat & two others
..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Shahid Sangam, Superintendent to the Court of District & Sessions Judge/Zilla Qazi Swat, representing respondents No. 1 to 3, do hereby affirm that contents of the comments of respondents No. 1 to 3 in the above titled Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been kept concealed from this Hon'ble Court.



DEPONENT

(Shahid Sangam)
Superintendent,
District & Sessions Judge/
Zilla Qazi, Swat

Representative of respondents No. 1 to 3